

6	וְשֵׁמֶתְךָ	הַמְצַנְנֶת	עַל-	רֹאשׁוֹ	וְנִתְּתָה	אֶת-	נֹר	הַקֹּדֶשׁ	עַל-	הַמְצַנְנֶת:
	اور-تو-رکھے-گا	-عمامہ	-پر-	اُس-کے-سر	اور-تو-دے-گا	-کو	تاج	-قدس-کا	-پر-	-عمامے
	H3947	H0853	H8081	H3332	H0853	H5145	H5144	H6944	H4701	H4701

لگانا۔ تختی مقدس کی سونے پر اُس کر باندھ پگڑی پر سر کے اُس

7	וְלִקְחָתָהּ	אֶת-	שֶׁמֶן	הַמִּשְׁחָה	וְיִצְקָתָהּ	עַל-	רֹאשׁוֹ	וּמִשְׁחָתָהּ	אֶת:
	اور-تو-لے-گا	-کو	تیل	-مسح-کا	اور-تو-ڈالے-گا	-پر-	اُس-کے-سر	اور-تو-مسح-کرے-گا	اُسے
	H3947	H0853	H8081	H3332	H0853	H5145	H5144	H4886	H0853

کرنا۔ مسح اُسے کر اُنڈیل تیل کا مسح پر سر کے بارون

8	וְאֶת-	בְּנָיו	תִּקְרִיב	וְהִלְבַּשְׁתָּם	כִּתְנֹת:
	اور-کو-	اُس-کے-بیٹوں	تو-قرب-لائے-گا	اور-تو-پہنائے-گا-انہیں	قمیصیں
	H0853		H7126	H3847	H3801

پہنانا۔ زیرجامہ کر لا آگے کو بیٹوں کے اُس پھر

9	וְחִנְרָתָהּ	אֹתָם	אֲבִיט	אֶהָרֹן	וּבְנָיו	וְחִבְשָׁתָהּ	לְהֵם	מִנְבְּעָת	וְהִיִּתָהּ
	اور-تو-باندھے-گا	انہیں	کمر بند	بارون	اور-اُس-کے-بیٹوں-کو	اور-تو-باندھے-گا	اُن-کو	ٹوپیاں	اور-بو-گی
	H2296	H0853	H0073	H0175		H2280	H1992	H4021	H1961

لְהֵם	כְּהֵנָה	לְחֻקָּתָהּ	עוֹלָם	וּמִלֵּאֵת	יָד-	אֶהָרֹן	וְיָד-	בְּנָיו:
اُن-کو	کہانت	-فریضے-کے-طور-پر	بمیشہ-کے	اور-تو-بھرے-گا	ہاتھ-	بارون-کا	اور-ہاتھ-	اُس-کے-بیٹوں-کا
H1992	H3550	H2708	H5769	H4390	H3027	H0175	H3027	

میری میں مقدس تک ہمیشہ اولاد کی اُن اور وہ صرف کرنا۔ مقرر پر منصب کے اُن کو بیٹوں کے اُس اور بارون ٹو یوں باندھنا۔ کمر بند اور پگڑیاں کے اُن رہیں۔ کرتے خدمت

10	وְהִקְרַבְתָּ	אֶת-	הַפָּר	לְפָנָי	אֶהָל	מוֹעֵד	וְסֻמְדָה	אֶהָרֹן	וּבְנָיו	אֶת-
	اور-تو-قرب-لائے-گا	-کو	-بیل	-سامنے	خیمے	اجتماع-کے	اور-رکھے-گا	بارون	اور-اُس-کے-بیٹے	-کو
	H7126	H0853	H6499	H6440	H0168	H4150	H5564	H0175	H0853	H0853

יְדִיָּהֶם	עַל-	רֹאשׁ	הַפָּר:
اپنے-ہاتھوں	-پر-	سر	-بیل-کے
H3027			H6499

رکھیں۔ ہاتھ اپنے پر سر کے اُس بیٹے کے اُس اور بارون لانا۔ سامنے کے خیمے کے ملاقات کو بیل

11	וְשַׁחֲטָתָהּ	אֶת-	הַפָּר	לְפָנָי	יְהוָה	פֶּתַח	אֶהָל	מוֹעֵד:
	اور-تو-ذبح-کرے-گا	-کو	-بیل	-سامنے	یہوواہ-کے	دروازے-پر	خیمے	اجتماع-کے
	H0853	H6499	H6440	H3068	H6607	H0168	H4150	

کرنا۔ ذبح حضور کے رب سامنے کے دروازے کے خیمے اُسے

12	וְלִקְחָתָהּ	מִדָּם	הַפָּר	וְנִתְּתָהּ	עַל-	קַרְנֹת	הַמִּזְבֵּחַ	בְּאֲזָבֵעֶךָ	וְאֶת-	כָּל-
	اور-تو-لے-گا	-خون-سے	-بیل-کے	اور-تو-لگائے-گا	-پر-	سینگوں	-مذبح-کے	اپنی-انگلی-سے	اور-کو-	سارے-
	H3947	H1818	H6499	H5414	H5145	H4196	H4196	H0676	H0853	H3605

הַדָּם	הַשֶּׁפֶךְ	אֶל-	יְסוּד	הַמִּזְבֵּחַ:
-خون	تو-بہائے-گا	-کی-طرف-	بنیاد	-مذبح-کی
H1818	H8210	H0413	H3247	H4196

دینا۔ اُنڈیل پر پائے کے گاہ قربان خون باقی اور لگانا پر سینگوں کے گاہ قربان سے اُنگلی اپنی کر لے کچھ سے میں خون کے بیل

13 **וְלִקְחָתָּ** اور-تو-لے-گا **אֶת-כֹּל-הַחֶלֶב** -چربی **הַמִּזְבֵּחַ** -ڈھانپنے-والی **אֶת-** کو **הַקֶּרֶב** -اوجھڑی اور-کو **וְאֵת** اور-کو **הַיִּתְרוֹת** -جھلی **עַל-** پر- **הַכֶּיֶד** -جگر **H3947** **H0853** **H3605** **H2459** **H3680** **H0853** **H7130** **H0853** **H3508** **H3516**

וְאֵת اور-کو **שְׁנֵי** دونوں **הַכֹּלֹת** -گردوں **וְאֶת-** اور-کو **הַחֶלֶב** -چربی جو **אֶשֶׁר** جو **עֲלֵיהֶן** اُن-پر **וְהִקְטַרְתָּ** اور-تو-جلائے-گا **הַמִּזְבֵּחַ:** -مذبح-پر **H8147** **H3629** **H0853** **H2459** **H4196**

دینا۔ جلا پر گاہ قربان کر لے سمیت چربی کی اُن گردے دونوں اور کلیجی جوڑ چربی، تمام کی پر انتڑیوں

14 **וְאֶת-בֶּשֶׂר** اور-کو-گوشت **הַפֶּל** -بیل-کا **וְאֶת-** اور-کو **עֵרֹן** اُس-کی-کھال اور-کو **וְאֶת-** اُس-کی-گوبر **פֶּרִשׁוֹ** تو-جلائے-گا **תְּשַׂרְף** آگ-میں **בָּאֵשׁ** -آگ-میں **מִחוּץ** باہر **H0853** **H1320** **H6499** **H0853** **H5785** **H0853** **H6569** **H8313** **H0784** **H2351**

לְמִזְבֵּחַ -خیمہ-گاہ-سے **חֲטָאת** گناہ-کی-قربانی **הוּא:** یہ-بے **H4264** **H1931**

بے-قربانی کی گناہ یہ دینا۔ جلا باہر کے گاہ خیمہ کو گوبر کے انتڑیوں اور کھال گوشت، کے بیل لیکن

15 **וְאֶת-** اور-کو **הָאֵיל** -مینڈھے **הָאֶחָד** -ایک **תָּקַח** تو-لے-گا **וְסִמּוֹ** اور-رکھیں-گے **אֶתְרוֹן** بارون اور-اُس-کے-بیٹے **וּבְנָיו** کو **אֶת-** اپنے-باتھوں **יְדֵיהֶם** پر- **H0853** **H0259** **H3947** **H5564** **H0175** **H0853** **H3027**

רֶאֶשׁ سر **הָאֵיל:** -مینڈھے-کے

رکھیں۔ پر سر کے مینڈھے باتھ اپنے بیٹے کے اُس اور بارون آنا۔ لے کو مینڈھے پہلے بعد کے اس

16 **וְשַׁחֲטָהּ** اور-تو-ذبح-کرے-گا **אֶת-** کو **הָאֵיל** -مینڈھے اور-تو-لے-گا **וְלִקְחָתָּ** اور-تو-لے-گا **אֶת-** کو **דָּמוֹ** اُس-کے-خون اور-تو-چھڑکے-گا **וְזָרְקָהּ** اور-تو-چھڑکے-گا **עַל-** پر- **הַמִּזְבֵּחַ** -مذبح **H0853** **H0853** **H3947** **H0853** **H1818** **H2236** **H4196**

סָבִיב: چاروں-طرف **H5439**

چھڑکنا۔ پر پہلوؤں چار کے گاہ قربان خون کا اُس کے کر ذبح اُسے

17 **וְאֶת-** اور-کو **הָאֵיל** -مینڈھے **תֹּכְזֶה-کָרֶה-גָּ** تو-ٹکڑے-کرے-گا **לְנִתְחֵיו** ٹکڑوں-میں اور-تو-دھوئے-گا **וְרַחֲצָהּ** اور-تو-دھوئے-گا **קֶרְבּוֹ** اُس-کی-اوجھڑی اور-اُس-کی-ٹانگیں **וּבְכַעֲשׂוֹ** **H0853** **H5408** **H5409** **H7364** **H7130** **H3767**

וְנִתְחָה اور-تو-رکھے-گا **עַל-** پر- **נִתְחָיו** اُس-کے-ٹکڑوں اور-پر- **וְעַל-** اور-پر- **רֶאֶשׁוֹ:** اُس-کے-سر **H5414** **H5409**

کر ملا ساتھ کے ٹکڑوں باقی اور سر انہیں بھر دھونا۔ کو پنڈلیوں اور انتڑیوں کی اُس کے کر ٹکڑے ٹکڑے کو مینڈھے

18 **וְהִקְטַרְתָּ** اور-تو-جلائے-گا **אֶת-** کو **כֹּל-** سارے- **הָאֵיל** -مینڈھے -مذبح-پر **הַמִּזְבֵּחַ** سوختنی-قربانی **הוּא** یہ **לִיהוּא** یہوواہ-کے-لیے **רִיחַ** خوشبو **נִחֻחַ** پسندیدہ **H0853** **H3605** **H4196** **H1931** **H3068** **H7381** **H5207**

אֶשֶׁה آتشیں-قربانی **לִיהוּא** یہوواہ-کے-لیے **הוּא:** یہ-بے **H0801** **H3068** **H1931**

بے-پسند کو رب خوشبو کی اُس اور ہے، قربانی والی ہونے بھسم لے کے رب قربانی یہ والی جلنے دینا۔ جلا پر گاہ قربان کو مینڈھے پورے

23	וְכֹזֵב	אֶחָד	וְחֶלֶת	לֶחֶם	אֶחָד	אֶחָד	וְרִקִּים	אֶחָד	מִסֵּל
	اور-گول-روٹی	روٹی-کی	اور-چپاتی	روٹی-کی	تیل-والی	ایک	اور-پتلی-روٹی	ایک	-ٹوکری-سے
	H3603	H3899	H2471	H3899	H8081	H0259	H7550	H0259	H5536

ہے-خمیر-روٹیوں-کی
 جو
 -سامنے
 یہوواہ-کے
 اِשֶׁר
 لֶפְנֵי
 יְהוָה:

[H4682](#) [H6440](#) [H3068](#)

تیل پر جس روٹی ایک اور ہو گیا ڈالا تیل میں جس روٹی ایک روٹی، سادہ ایک بے پڑی پر دروازے کے خیمے یعنی حضور کے رب جو سے میں ٹوکری اُس نکالنا۔بو گیا لگایا

24	וְשִׁמְתָהּ	עַל	כִּפִּי	אֶהָרֹן	וְעַל	כִּפִּי	בְּנֵי	וְהִנֵּפְתָהּ	אֲתָם
	اور-تو-رکھے-گا	پر	بتھیلیوں	بارون-کی	اور-پر	بتھیلیوں	اُس-کے-بیٹوں-کی	اور-تو-ہلانے-گا	انہیں
	H3605		H3709	H0175		H3709			H0853

ہنּוּפָה
 -سامنے
 یہوواہ-کے
 لֶפְנֵי
 יְהוָה:

[H8573](#) [H6440](#) [H3068](#)

والی ہلانے انہیں وہ اور دینا، میں ہاتھوں کے بیٹوں کے اُس اور بارون کر لے چیزیں یہ کی ٹوکری کی روٹی بے خمیری اور چیزیں گئی کی الگ سے مینڈھے ہلائیں۔سامنے کے رب پر طور کے قربانی

25	וְלֶקְחָתָהּ	אֲתָם	מִיָּדָם	וְהִקְשַׁרְתָּ	עַל-	הָעֹלָה	לֵי יָיִח
	اور-تو-لے-گا	انہیں	ان-کے-ہاتھ-سے	اور-تو-جلانے-گا	-پر-	-سوختنی-قربانی	-خوشبو-کے-لیے
	H3947	H0853	H3027	H4196			H7381

נִיחֹיחַ
 -سامنے
 یہوواہ-کے
 יְהוָה
 אֲשֶׁה
 הוּא
 לֵי יָיִח:

[H5207](#) [H6440](#) [H3068](#) [H0801](#) [H1931](#) [H3068](#)

کو رب خوشبو کی اُس اور ہے، قربانی والی جلنے لئے کے رب یہ دینا۔ جلا پر گاہ قربان ساتھ کے قربانی والی ہونے بھسم کر لے واپس سے اُن چیزیں یہ پھر ہے۔پسند

26	וְלֶקְחָתָהּ	אֶת-	הַחֹזֶה	מֵאֵיל	הַמִּלְאִים	אֲשֶׁר	לְאֶהֲרֹן	וְהִנֵּפְתָהּ	אֲתָו
	اور-تو-لے-گا	-کو	-سینہ	-مینڈھے-سے	-تقدیس-کے	جو	بارون-کے-لیے	اور-تو-ہلانے-گا	اُسے
	H3947	H0853	H2373		H4394		H0175		H0853

הַנּוּפָה
 -سامنے
 یہوواہ-کے
 יְהוָה
 וְהִנֵּה
 לֶחֶם
 לְמִנְחָה:

[H8573](#) [H6440](#) [H3068](#) [H1961](#)

یہ ہلانا۔ سامنے کے رب پر طور کے قربانی والی ہلانے بھی کو سینہ ہے۔ جاتا دیا اختیار کا اعظم امام کو بارون معرفت کی جس لینا سینہ کا مینڈھے اُس اب گا۔بو حصہ تیرا کا قربانی سینہ

27	וְקִרְשָׁתָהּ	אֶת	חֹזֶה	הַתְּנִיפָה	וְאֶת	שׁוֹק	הַתְּרוּמָה	אֲשֶׁר	הַנֶּהֱפָה	וְאֲשֶׁר
	اور-تو-مقدس-کرے-گا	کو	سینہ	-ہلاؤ-قربانی-کا	اور-کو	ران	-اٹھائو-قربانی-کا	جو	ہلا-ہلا-گیا	اور-جو
	H6942	H0853	H2373	H8573	H0853	H7785	H8641			

הוֹרֵם
 -مینڈھے-سے
 -تقدیس-کے
 מֵאֵיל
 הַמִּלְאִים
 מֵאֲשֶׁר
 לְאֶהֲרֹן
 וּמֵאֲשֶׁר
 לְבָנָיו:

[H4394](#) [H0175](#)

ہلانے سامنے کے رب کو سینہ کے اُس ہیں۔ کرنے مُقَدَّس و مخصوص ٹکڑے کے مینڈھے مستعمل لئے کے مخصوصیت کی بیٹوں کے اُس اور بارون تجھے یوں جائے۔اٹھایا پر طور کے قربانی والی اٹھانے کو ران کی اُس اور جائے ہلایا پر طور کے قربانی والی

וְהָיָה								
اور-ہو-گا								
H1961								
یہوواہ-کے-لیے								
H3068								
سَلْمِיהֶם								
ان-کی-سلامتی-کی-قربانیوں								
H8002								
تَرומָה	תְּרוּמָה							
اور-انہاؤ-قربانی								
H8641								
یہ-ہے								
H1931								
יִשְׂרָאֵל								
اور-اسرائیل-کے								
H3478								
מִזְבְּחֵי								
-ذبیحوں-سے								
H2077								

تو کریں پیش قربانیاں کی سلامتی اپنی کو رب اسرائیلی بھی جب ہے۔ حق کا ملنے یہ تک ہمیشہ سے طرف کی اسرائیلیوں کو اولاد کی اُس اور بارون گے۔ ملیں ٹکڑے دو یہ کو اماموں

וּבְנֵי								
اور-بچے								
H6944								
بارون-کے-لیے								
H1961								
אֲשֶׁר								
جو								
H10175								
ان-کے-لیے								
H3027								
וּלְמִלְאָ-								
اور-بھرنے-کو								
H4390								
אֶת-								
کو								
H10853								
ان-کے-باتھ								
H3027								

گا۔ جائے کیا مقرر جگہ کی بارون کے کر مسح جسے ہیں دینے کو مرد اُس سے میں اولاد کی اُس لباس مُقدس کے اُس تو گا جائے ہو فوت بارون جب

שְׁבַעַת								
سات								
H7651								
دن								
H3117								
پہنے-گا-انہیں								
H3847								
יְלֻבְּשֻׁם								
پہنے-گا-انہیں								
H3548								
אֲשֶׁר								
جو								
H10175								
ان-کے-لیے	ان-کے-لیے	ان-کے-لیے	ان-کے-لیے	ان-کے-ליے	ان-کے-لیے	ان-کے-لیے	ان-کے-لیے	ان-کے-لیے
H1961								
וּבְנֵי								
اور-بچے								
H1320								
ان-کے-لیے								
H10853								
אֶת-								
کو								
H1310								
ان-کے-باتھ								
H3027								

رے۔ پہنے تک دن سات لباس یہ وہ گا آئے میں خیمے کے ملاقات لئے کے کرنے خدمت میں مقدس اور گا جائے کیا مقرر جگہ کی اُس بیٹا جو

וְאֵת								
اور-کو								
H0853								
میںڈھے								
H4394								
תְּקַח								
تو-لے-گا								
H3947								
اور-تو-پکائے-گا								
H1310								
אֶת-								
کو								
H0853								
ان-کے-باتھ								
H3027								

ہے۔ اُبالنا پر جگہ مُقدس اُسے بے گیا کیا ذبح لئے کے مخصوصیت کی بیٹوں کے اُس اور بارون میںڈھا جو

וְאֶבְלָ								
اور-کھائے-گا								
H0398								
بارون								
H0175								
اور-اُس-کے-بیٹے								
H0853								
אֶת-								
کو								
H0853								
ان-کے-باتھ								
H3027								
וְאֶת-								
کو								
H0853								
ان-کے-باتھ								
H3027								
אֶת-								
کو								
H0853								
ان-کے-باتھ								
H3027								

کھائیں۔ روٹیاں بے خمیری کی ٹوکری اور گوشت کا میںڈھے پر دروازے کے خیمے کے ملاقات بیٹے کے اُس اور بارون پھر

וְאֶכְלוּ								
اور-کھائیں-گے								
H0398								
انہیں								
H0853								
אֲשֶׁר								
جن-سے	جن-سے	جن-سے						

34	וָאֵם- اور-اگر-	יִנְתֵּר بچ-رہے	מִבְּשָׂר گوشت-سے	הַמִּלֻּאִים -تقدیس-کے	וּמִזֶּן- اور-سے-	הַלֶּחֶם -روٹی	עֵד- -تک-	הַבֶּקֶר -صبح	וְשָׂרְפָתָּ اور-تو-جلانے-گا	אֶת- -کو
	H0853	H3498	H1320	H4394	H5704	H3899	H5704	H1242	H8313	H0853

הַנֹּתֵר -بچا-ہوا	בָּאֵשׁ -آگ-میں	לֹא نہیں	יֹאכְל کھایا-جائے-گا	כִּי- -کیونکہ-	קָדֵשׁ مقدس	הוּא: -یہ-ہے
H3498	H0784	H3808	H0398	H6944	H1931	

یہ مُقَدَّس وہ کیونکہ ہے، منع کھانا اُسے جائے۔ جلایا اُسے تو جائے بچ کچھ سے میں روٹی یا گوشت اِس تک صبح اگلی اگر اور

35	וְעֵשִׂיתָ اور-تو-کرے-گا	לְאַהֲרֹן بارون-کے-لیے	וּלְבְנוֹ اور-اُس-کے-بیٹوں-کے-لیے	זָבַח اسی-طرح	כֹּל -سب-کے-مطابق	אֲשֶׁר- جو-	צִוִּיתִי میں-نے-حکم-دیا
	H0175	H3117	H3117	H3602	H3605	H6680	H6680

אֲתַכָּה تجھے	שִׁבְעַת سات	יָמִים دن	תִּמְלֵא -تو-بھرے-گا	יָדָם: -اُن-کے-ہاتھ
H0853	H7651	H3117	H4390	H3027

جائے۔ منائی تک دن سات تقریب یہ کرنا۔ عمل پر ہدایت میری عین تو گا کرے مقرر امام کو بیٹوں کے اُس اور بارون تو جب

36	וּפָר اور-بیل	חֲטָאת گناہ-کی-قربانی-کا	תְּעֹשֶׂה تو-چڑھائے-گا	לַיּוֹם -دن-کے-لیے	עַל- -پر-	הַכֹּפָרִים -کفاروں	וְחֲטָאתָ اور-تو-پاک-کرے-گا	עַל- -پر-	הַמִּזְבֵּחַ -مذبح
	H6499	H3117	H3117	H3117	H3117	H3725	H2398	H4196	H4196

בְּכֹפְרָךָ کفارہ-دینے-میں	עָלָיו اُس-پر	וּמִשְׁחָתָ اور-تو-مسح-کرے-گا	אָתוֹ اُسے	לְקַדְּשׁוֹ: مقدس-کرنے-کو
H4886	H0853	H4886	H0853	H6942

گا۔ کرے پاک سے ناپاکی کی طرح ہر اُسے کر دے کفارہ کا گاہ قربان تو سے اِس کرنا۔ ذبح بیل جوان ایک روزانہ پر طور کے قربانی کی گناہ دوران کے اِس
گا۔ جائے ہو مُقَدَّس و مخصوص لئے میرے وہ سے اِس اُنڈیلنا۔ تیل کا مسح پر اُس علاوہ کے اِس

37	שִׁבְעַת سات	יָמִים دن	תְּכַפֵּר تو-کفارہ-دے-گا	עַל- -پر-	הַמִּזְבֵּחַ -مذبح	וְקִדְּשָׁתָּ اور-تو-مقدس-کرے-گا	אָתוֹ اُسے	וְהָיָה اور-ہو-گا	הַמִּזְבֵּחַ -مذبح	קָדֵשׁ قدس
	H7651	H3117	H4196	H4196	H4196	H6942	H0853	H1961	H4196	H6944

קִדְּשִׁים اقدس	כֹּל- -پر-	הַנֶּזֶע -چھونے-والا	בְּמִזְבֵּחַ -مذبح-کو	יְקַדְּשׁוֹ: مقدس-ہو-گا	ס —
H6944	H3605	H5060	H4196	H6942	

اُسے بھی جو گی۔ ہو مُقَدَّس نہایت گاہ قربان پھر کرنا۔ مُقَدَّس و مخصوص سے تیل اُسے اور کرنا صاف پاک اُسے کر دے کفارہ کا گاہ قربان تک دن سات
گا۔ جائے ہو مُقَدَّس و مخصوص بھی وہ گا چھوئے

38	וְזָה اور-یہ	אֲשֶׁר جو	תְּעֹשֶׂה تو-چڑھائے-گا	עַל- -پر-	הַמִּזְבֵּחַ -مذبح	כֹּפְשִׁים بھیڑے-کے-بچے	בְּי- -بیٹے-	שָׁנָה سال-کے	שְׁנַיִם دو	לַיּוֹם -دن-کے-لیے	תְּמִיד: مسلسل
	H2088	H4196	H4196	H4196	H4196	H3532	H8141	H8141	H8147	H3117	H8548

دینا، جلا پر گاہ قربان بچے نر کے بھیڑ دو کے سال ایک ایک روزانہ

39	אֶת- -کو	הַכֹּפֶשׁ -بھیڑے-کے-بچے	הָאֶחָד -ایک	תְּעֹשֶׂה تو-چڑھائے-گا	בְּבֹקֶר -صبح-کو	וְאֵת اور-کو	הַכֹּפֶשׁ -بھیڑے-کے-بچے	הַשְּׁנַיִם -دوسرے	תְּעֹשֶׂה تو-چڑھائے-گا	בֵּין -درمیان
	H0853	H3532	H0259	H4196	H1242	H0853	H3532	H8145	H0996	H0996

הָעֶרְבָּיִם:
-شاموں-کے
[H6153](#)

بعد۔ عین کے ہونے غروب کے سورج کو دوسرے وقت، کے صبح کو ایک

יין	תהין	רבעית	וְזֶסֶף	ההין	רבע	כתית	בשמן	בליל	סלת	ועשון
مے	-پن-کا	چوتھائی	اور-تپاؤن	-پن-کا	چوتھائی	کوٹے-بوئے	-تیل-میں	ملا-بوا	میدے-کا	اور-دسواں-حصہ
H3196	H1969	H7253	H5262	H1969	H7253	H3795	H8081		H5560	H6241

لکچس ہاٹھار:

بھیڑ-کے-بچے-کے-لیے	ایک
H3532	H0259

ایک پر طور کے نذر کی مے ہو۔ گیا ملایا ساتھ کے تیل لٹر ایک کے زیتونوں بوئے کوٹے جو جائے کیا پیش میدہ بہترین گرام کلو ڈیڑھ ساتھ کے جانور پہلے انڈیلنا پر گاہ قربان بھی مے لٹر

وآت	הקבש	השני	תעשה	בין	הערבים	קמנות	הבקר
اور-کو	-بھیڑ-کے-بچے	-دوسرے	تو-چڑھائے-گا	-درمیان	-شاموں-کے	-نذر-کی-طرح	-صبح-کی
H0853	H3532	H8145	H0996	H6153	H4503	H1242	

وکنסכה	תעשה	לה	להיח	ניחח	אשה	ליהנה:
اور-اُس-کے-تپاؤن-کی-طرح	تو-کرے-گا	اُس-کے-لیے	-خوشبو-کے-لیے	پسندیدہ	آتشین-قربانی	یہوواہ-کے-لیے
H5262			H7381	H5207	H0801	H3068

بے-پسند کو رب خوشبو کی قربانی ایسی جائیں۔ کی پیش نذریں دو یہ کی مے اور غلہ بھی ساتھ کے جانور دوسرے

עלת	תמיד	לדרתיכם	פתח	אהל	מועד	לפני	יהוה	אשר
سوختنی-قربانی	مسلسل	تمہاری-نسلوں-کے-لیے	دروازے-پر	-خیمے-	اجتماع-کے	-سامنے	یہوواہ-کے	جہاں
	H8548	H1755	H6607	H0168	H4150	H6440	H3068	

انپرد	لکم	שמחה	לדבר	אליך	שם:
میں-ملوں-گا	تم-سے	وباں	بات-کرنے-کو	تجھ-سے	وباں
H3259		H8033	H1696	H0413	H8033

کروں ملا سے تم میں وباں چڑھائیں۔ حضور کے رب پر دروازے کے خیمے مقدس سے باقاعدگی قربانی یہ والی ہونے بہسم نسلیں تمام والی آنے کہ بے لازم گا ہوں کلام ہم سے تم اور گا

ונעדתי	שמחה	לבני	ישראל	ונקדש	בבבדי:
اور-میں-ملوں-گا	وباں	-بنی	اسرائیل-سے	اور-مقدس-ہو-گا	میرے-جلال-سے
H3259	H8033		H3478	H6942	H3519

گی۔ جائے ہو مقدس و مخصوص سے جلال میرے جگہ وہ اور گا، کروں ملا بھی سے اسرائیلیوں میں وباں

וקדשתی	את	אהל	מועד	ואת	המזבח	ואת	אהרן	ואת	בני
اور-میں-مقدس-کروں-گا	-کو	خیمے	اجتماع-کے	اور-کو-	-مذبح	اور-کو-	بارون	اور-کو-	اُس-کے-بیٹوں
H6942	H0853	H0168	H4150	H0853	H4196	H0853	H0175	H0853	

אקדש	לכהן	לי:
میں-مقدس-کروں-گا	کہانت-کرنے-کو	میرے-لیے
H6942	H3547	

میری سے حیثیت کی اماموں وہ تاکہ گا کروں مخصوص کو بیٹوں کے اُس اور بارون اور گا کروں مخصوص کو گاہ قربان اور خیمے کے ملاقات میں یوں کریں۔ خدمت

ושכנתی	בתוך	בני	ישראל	והייתי	לקہם	לאלהים:
اور-میں-سکونت-کروں-گا	-درمیان	بنی	اسرائیل-کے	اور-میں-ہوں-گا	اُن-کا	-خدا
H7931	H8432		H3478	H1961		H0430

گا ہوں خدا کا اُن اور گا رہوں درمیان کے اسرائیلیوں میں تب

מִצְרַיִם	מֵאֶרֶץ	אֲתָם	הוֹצֵאתִי	אֲשֶׁר	אֱלֹהֵיהֶם	יְהוָה	אֲנִי	כִּי	וַיָּדְעוּ
مصر-کی	-سرزمین-سے	انہیں	نکالا	جس-نے	ان-کا-خدا-ہوں	یہوواہ	میں	کہ	اور-وہ-جانیں-گے
H4714	H0776	H0853	H3318		H0430	H3068	H0589		H3045
				פ	אֱלֹהֵיהֶם:	יְהוָה	אֲנִי	בְּתוֹכָם	לְשַׁכְּנִי
				—	ان-کا-خدا-ہوں	یہوواہ	میں	ان-کے-درمیان	سکونت-کرنے-کو
					H0430	H3068	H0589	H8432	H7931

ہوں۔خدا کا اُن رب مَیں کروں۔ سکونت درمیان کے اُن تاکہ لایا نکال سے مصر اُنہیں مَیں کہ ہوں، خدا کا اُن رب مَیں کہ گے لیں جان وہ